



پشاور زلمی نے لاہور قلندرز کو 16 رنز سے شکست دے دی

- لوئس گریگری کے 4 شکار
- حیدر علی اور ٹام بنٹن کی جارحانہ اننگز

راولپنڈی، 28 فروری 2020ء:

ایچ بی ایل پی ایس ایل فائیو کے 11ویں میچ میں پشاور زلمی نے لاہور قلندرز کو 16 رنز سے شکست دے دی۔

133 رنز کے تعاقب میں لاہور قلندرز کی ٹیم مقررہ 12 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 116 رنز ہی بنا سکی۔

بارش اور آؤٹ فیلڈ گیلی ہونے کے باعث لاہور قلندرز اور پشاور زلمی کے درمیان میچ کا ٹاس مقررہ وقت سے تقریباً 2 گھنٹے تاخیر سے ہوا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان میچ بارش کے باعث 12 اوورز تک محدود کر دیا گیا تھا۔

لاہور قلندرز نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تو پشاور زلمی کے بلے بازوں نے اننگز کے آغاز سے ہی جارحانہ انداز اپنایا۔ 32 کے مجموعی اسکور پر کامران اکمل کی وکٹ گنوائے کے بعد پشاور زلمی کے اوپنر ٹام بنٹن اور نوجوان بلے باز حیدر علی نے حریف باؤلرز پر بھرپور وار کر دیا۔

دونوں کھلاڑیوں نے 11 گیندوں پر 37 رنز کی برق رفتار شراکت قائم کر کے کھیل کی رفتار مزید تیز کر دی۔ حیدر علی نے 12 گیندوں پر 4 چھکے اور 1 چوکا جبکہ ٹام بنٹن نے 15 گیندوں پر 4 چوکے اور 2 چھکے لگائے۔ دونوں بلے باز 34، 34 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔

حیدر علی کو پولین کی راہ دکھانے کے بعد لاہور قلندرز کے فاسٹ باؤلر دلبر حسین نے نپی تلی باؤلنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے یکے بعد دیگرے 3 وکٹیں حاصل کر کے تیزی سے بننے والے رنز کی رفتار کو روکا۔ انہوں نے محمد محسن، لوئس گریگری اور ڈیرن سیمی کو آؤٹ کیا۔

پشاور زلمی نے مقررہ 12 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 132 رنز بنائے۔

دلبر حسین نے 3 اوورز میں 24 رنز کے عوض 4 وکٹیں حاصل کیں۔ ڈیوڈ ویزے نے 2 اور شاہین شاہ آفریدی نے 1 وکٹ حاصل کی۔

جواب میں لاہور قلندرز کی جانب سے اننگز کا آغاز مثبت رہا۔ 133 رنز کے تعاقب میں کرس لین اور فخر زمان پر مشتمل اوپننگ جوڑی نے لاہور قلندرز کو 25 گیندوں پر 48 رنز کا جارحانہ آغاز فراہم کیا۔ کرس لین 15 گیندوں پر 30 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ فخر زمان نے 22 رنز کی اننگز کھیلی۔ دونوں کھلاڑیوں کو لوئس گریگری نے پویلین کی راہ دکھائی۔

انگلینڈ سے تعلق رکھنے والے میڈیم پیسر نے میچ میں عمدہ باؤلنگ کرتے ہوئے مین آف دی میچ کا ایوارڈ جیتا۔ انہوں نے محمد حفیظ اور لاہور قلندرز کے کپتان سہیل اختر کی وکٹ بھی حاصل کی۔ سہیل اختر 12 اور محمد حفیظ 1 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔

مڈل آرڈر کی ناکامی کے باوجود سمت پٹیل نے لاہور قلندرز کو سہارا دینے کی کوشش مگر 34 رنز پر مشتمل ان کی ناقابل شکست اننگز بھی لاہور قلندرز کو فتح دلانے میں ناکام رہی۔

لوئس گریگری نے 25 رنز کے عوض 4 وکٹیں حاصل کیں۔

انتیس فروری کو ایچ بی ایل پی ایس ایل 2020 میں 2 میچز کھیلے جائیں گے۔ پہلے میچ میں ملتان سلطانز اور دفاعی چیمپئن کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی ٹیمیں ملتان کرکٹ اسٹیڈیم جبکہ دوسرے میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کی ٹیمیں پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم راولپنڈی میں مدمقابل آئیں گی۔

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk

Partners



www.psl-t20.com ●
@thePSLT20 ●
@thePSL ●
PakistanSuperLeague ●
@thePSL ●

PCB Headquarters
Gaddafi Stadium,
Ferozpur Road, Lahore
Pakistan, PO Box 54000
T: +92 42 3571 7231-4